



## سوال

(55) حاکم کا یہ حکم کہ مسلمان لوگ مسجد کے اندر نماز میں آمین بالجہر نہ کہیں

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کسی حاکم کا یہ حکم کہ مسلمان لوگ مسجد کے اندر نماز میں آمین بالجہر نہ کہیں، دست اندازی امور مذہبی ہے یا نہیں، اور آمین بالجہر کہنے والوں کا اس حکم امتناعی سے نقصان دینی ہے یا نہیں، اور مسجد میں اذن عام واسطے ہر مسلمان کے اپنے طور پر ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آمین بالجہر سے منع کرنا امور مذہبی میں دست اندازی ہے اور آمین بالجہر کہنے والوں کا نقصان دینی ہے اور مسجد میں ہر مسلمان کے واسطے بطور نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ (ابوالحسنات محمد عبدالحی عفی عنہ لکھنوی)

(نقل مطابق اصل از فتاویٰ مولانا عبدالحی ص ۳۰۳ تا ۳۰۴، مرسلہ عبد الرشید عراقی)

(انخبار اہل حدیث سوہدرہ جلد نمبر ۷، شمارہ نمبر ۳۸)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 09 ص 141

محدث فتویٰ